



میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جب کہ صور پھونکنے والا صور کو منہ سے لگائے ہوئے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے اور اپنا کان لگائے ہوئے، انتظار میں ہے کہ اسے صور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ فوراً صور پھونک دے

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جب کہ صور پھونکنے والا صور کو منہ سے لگائے ہوئے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے اور اپنا کان لگائے ہوئے، انتظار میں ہے کہ اسے صور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ فوراً صور پھونک دے“، مسلمانوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ رَبِّنَا“ ”میں اللہ کافی ہوں اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، ہم نے اپنے رب اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے“ ”راوی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سفیان نے ”تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ رَبِّنَا“ کے بجائے ”عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا“ روایت کرتے ہیں (یعنی ہم نے اپنے رب اللہ پر بھروسہ کیا ہے)۔

[صحیح] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں نبی ﷺ فرماتے ہیں: میں دنیا میں کیسے خوش و خرم رہوں اور اس کی لذتوں سے بے خبر رہوں اور قیامت کے قریب ہوں اور صور پھونکنے پر مامور فرشتے (اسرافیل) اپنے منہ کو صور کے ساتھ لگائے ہوئے ہوں، اپنے سر کو اسی طرف جھکائے ہوئے خاموش تیار ہے کہ اللہ صور پھونکنے کا حکم دے اور وہ صور پھونکے یاں تک کہ آسمانوں اور زمین میں موجود لوگ بیہوش ہو جائیں اور قیامت قائم ہو جائے؟ یہ معاملہ یعنی قیامت قائم ہونے کی قربت رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں پر بھاری و بوجھل محسوس ہوئی، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے آپ ﷺ کو کافی دیکھا ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، ہم نے اپنے رب اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے“ یعنی کہ وہ کہنے لگا: اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10545>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

